



محدث فتویٰ  
ISLAMIC RESEARCH COUNCIL OF AMERICA

## سوال

(299) حاملہ کی شرمگاہ سے اترنے والے پانی کا حجم

## جواب

السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ

ایک عورت جونماہ کی حاملہ ہے اس پر مضاف کامہینہ آیا اور مہینے کی ابتداء میں اسے پانی آتھا رہا جو خون نہیں تھا وہ اس پانی کے اترنے کے دوران روزے رکھتی رہی اس واقعہ کو دس سال ہو چکے ہیں اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس عورت پر ان روزوں کی قضا لازم ہے کہ اس کو معلوم تھا کہ اس کو پانی اتر رہا ہے اور پھر اس نے روزے کئے؟

## الجواب بعون الوہاب بشرط صحیح السؤال

وعلیکم السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلوة والسلام علی رسول اللہ، آما بعد!

اگر صورت واقعہ وہی ہے جو بیان کی گئی ہے تو ایسی صورت میں اس عورت کے روزے صحیح ہیں اس پر ان کی قضا واجب نہیں ہے۔ (سودی فتویٰ کیٹی)

هذا ما عندی والله أعلم بالصواب

## عورتوں کے لیے صرف

صفحہ نمبر 269

محمد فتویٰ